



سوال

(158) جب نماز میں عورت کے کچھ بال ظاہر ہو جائیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب نماز میں عورت کے کچھ بال ظاہر ہو جائیں تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب عورت کے معمولی سے بال اور جسم کا معمولی سا حصہ ظاہر ہو جائے تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر نماز کا اعادہ کرنا لازم نہ ہوگا اور یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور اگر بال اور جسم کافی زیادہ ظاہر ہو جائیں تو وہ عورت وقت کے اندر ہو تو نماز کا اعادہ کرے گی۔ یہ موقف عام علماء اور آئمہ اربعہ وغیرہ کا ہے۔ (شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 168

محدث فتویٰ